

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن کی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو تنوع، مساوات اور شمولیت کے حوالے سے اس کے شاندار کام پر قومی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے

برامپٹن، آن (15 ستمبر 2021) – اس ہفتے کے دوران برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز (BFES) کو کینیڈین ایسوسی ایشن آف فائر چیفس (CAFC) کی جانب سے 2021 کا ایوارڈ برائے ایکوٹیٹی، ڈائورسٹی اینڈ انکلوزن عطا کیا گیا ہے۔ اس نئے ایوارڈ کے ذریعے صنعت کے رہنماؤں کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے اور اس کام کا جشن منایا جاتا ہے جو ملک بھر کی فائر سروسز میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان میں کینیڈا کی متنوع آبادی کی عکاسی ہو۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ثقافتی قبولیت اور افہام و تفہیم پر مبنی ایک ایسی افرادی قوت قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو اس کمیونٹی کی بھرپور عکاسی کرتی ہو جس کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتی ہے۔ تنوع، مساوات اور شمولیت میں اضافہ BFES کے لیے ایک اہم ترجیح ہے اور کونسل میں یہ ایک بنیادی توجہ کا شعبہ ہے جو برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 2021-2025 فائر ماسٹر پلان پر عمل درآمد کی توثیق کرتا ہے۔ اس پلان میں توجہ کے دو اہم شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے - یعنی موجودہ افرادی قوت کے اندر تعلیم کی فراہمی اور آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دینا اور متنوع، مشمول اور مساوی مواقع فراہم کرنے والی ایک ایسی فائر سروسز کی تعمیر کے لیے بھرتی کے اختراعی طریقوں اور کثیر ثقافتی کمیونٹی کی وابستگی کو یقینی بنانا۔

فائر چیف بل بوئیز کی شبانہ روز کاوشوں اور ڈویژن چیف راجوت چھتوال کی قیادت میں BFES نے محکمے کے اندر تنوع، مساوات اور شمولیت میں اضافے کی حمایت کے لیے حکمت عملی کا ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے:

- متعدد کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز، کمیونٹی تنظیموں، غیر منافع بخش تنظیموں، ثقافتی اور عقائد پر مبنی تنظیموں کے ساتھ مشاورت، تربیتی مواقع کے ایک سلسلے کے ذریعے
- BFES ٹیم کے اندر ثقافتی آگاہی اور افہام و تفہیم میں اضافہ اور بھرتی کی ایک ایسی حکمت عملی تیار کرنا جو روایتی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہو
- اور افرادی قوت کو بڑھانے اور اسے برامپٹن کی متنوع آبادی کی زیادہ عکاس بنانے کے لیے اہم کمیونٹیز کے ساتھ منسلک ہو کر تنوع، مساوات اور شمولیت کی حمایت کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔

برامپٹن متنوع کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ طویل مدتی اہداف اور جو کام BFES اب کر رہا ہے اور اس میں آگے بڑھنے سے مستقبل کی ایک ایسی افرادی قوت کی بنیاد رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی جو کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کی حمایت جاری رکھتے ہوئے اس کمیونٹی کی بھرپور عکاسی کرے گی۔

اقتباسات

"تنوع، مساوات اور شمولیت کے شعبوں میں جاری بہتری کے لیے عزم ہونے پر برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی پوری ٹیم کو مبارکباد کی مستحق ہے۔ برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک گلدستے کی مانند ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تنوع کا جشن منائیں اور تمام گروپوں کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے وابستہ ہو کر اور بات چیت کر کے شمولیت کے عمل کو فروغ دیں۔ مجھے BFES کے اس کام پر فخر ہے جو وہ برامپٹن کی کمیونٹیز کے ساتھ منسلک ہو کر طویل مدتی بڑھوتری اور نشوونما کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"مجھے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے کیے جانے والے کام اور ترقی اور تعلیم کے لیے ان کی مسلسل لگن پر بہت فخر ہے۔ جیسا کہ اس ایوارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ BFES ٹیم کو تنوع، مساوات اور شمولیت کے حوالے سے ایک پیش کار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سروسز میں بامقصد تبدیلی لانے کے اس عزم اور آگاہی، تعلقات استوار کرنے اور تعلیم میں مسلسل سرمایہ کاری مستقبل میں ٹیم، صنعت اور ہماری کمیونٹی کو کامیابی کے لیے تیار کرے گی۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم کی جانب سے تنوع، مساوات اور شمولیت کا عزم ہی انہیں صنعت اور ہماری کمیونٹی کے رہنماؤں کے طور پر منفرد کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں تنوع، مساوات اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے بامعنی اقدامات کے ذریعے ہی - ہم ایک ایسی تنظیم کو چلا سکتے ہیں جو زیادہ اختراعی، حکمت عملی پر مبنی اور اس کمیونٹی کی عکاس ہو

سکتی ہے، جس کی وہ خدمت پر مامور ہے۔ میں اپنی برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی سربراہی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر مسلسل کام کیا اور ہمارے شہر اور فائر سروسز کو فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"CAFC" کا پہلا سالانہ ایکویٹی، ڈائورسٹی اینڈ انکلوزن ایوارڈ حاصل کرنے پر برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو مبارکباد۔ اس ایوارڈ کا مقصد نہ صرف اس شاندار برتری کا جشن منانا ہے بلکہ اسے ملک بھر میں بانٹنا بھی ہے۔ فارٹیں مکمل کیس اسٹڈی کے علاوہ دیگر مواد یہاں پر ملاحظہ کریں: www.cafc.ca۔ اس عظیم کام کو شیئر کرنے کے لیے شکریہ۔"

- کینیڈین ایسوسی ایشن آف فائر چیفس

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پراجیکٹ کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca